

Persian (فارسی)

## مناسک مقدماتی

علامت صلیب

به نام پدر و پسر و روح القدس.

امن

سلام و احوال پرسى

فیض پروردگار ما عیسی مسیح ، و عشق به خدا ، و ارتباط روح القدس با همه شما باشید

و با روح شما

عمل مجازات

برادران (برادران و خواهران) ، اجازه دهید گناهان خود را تصدیق کنیم ، و بنابراین خودمان را برای جشن گرفتن اسرار مقدس آماده کنید.

من به خدای متعال اعتراف می کنم و برای شما ، برادران و خواهران من ، که من بسیار گناه کرده ام ، در افکار من و در سخنان من ، در کاری که من انجام داده ام و در کاری که نتوانسته ام انجام دهم ، از طریق تقصیر من ، از طریق تقصیر من ، از طریق سنگین ترین تقصیر من ؛ بنابراین من از مریم همیشه و برجین می پرسم ، همه فرشتگان و مقدسین ، و تو ، برادران و خواهران من ، برای من برای من به خداوند خدای ما دعا کنید.

خداوند متعال به ما رحم کند ، گناهان ما را ببخش ، و ما را به زندگی ابدی برساند.

امن

گیری

بخشش داشته باشید سرورم.

Lithuanian (Lietuvis)

## Įvadinės apeigos

Kryžiaus ženklas

Vardan Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Amen

Pasisveikinimas

Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais.

Ir su tavo dvasia.

Gailesčio aktas

Broliai (broliai ir seserys), pripažinkime savo nuodėmes, Ir taip pasiruoškite švęsti šventas paslaptis.

Aš prisipažįstu visagaliui Dievui Ir tau, mano broliai ir seserys, kad aš labai nusidėjau, Mano mintyse ir mano žodžiais, Tai, ką padariau, ir to, ko man nepavyko padaryti, Per mano kaltę, Per mano kaltę, Dėl mano sunkiausios kaltės; Todėl klausiu palaimintos Marijos visur-virgin, Visi angelai ir šventieji, Ir tu, mano broliai ir seserys, melstis už mane Viešpačiui, mūsų Dievui.

Tegul visagalis Dievas pasigailės mūsų, Atleisk mums savo nuodėmes, Ir atvesk mus į amžinąjį gyvenimą.

Amen

Kyrie

Viešpatie pasigailėk.

Persian (فارسی)

بخشش داشته باشید سرورم.

**مسیح ، رحمت کنید.**

مسیح ، رحمت کنید.

**بخشش داشته باشید سرورم.**

بخشش داشته باشید سرورم.

گلخانه

جلال به خدا در بالاترین ، و بر روی  
زمین صلح به مردم اراده خوب. ما  
شما را ستایش می کنیم ، ما به شما  
برکت می دهیم ، ما شما را دوست  
داریم ، ما شما را تجلیل می کنیم ، ما  
از جلال عالی شما به شما  
سپاسگزاریم ، خداوند خدا ، پادشاه  
آسمانی ، خدایا ، پدر متعال. پروردگار  
عیسی مسیح ، فقط پسر متولد شده  
، پروردگار خدا ، بره خدا ، پسر پدر ،  
شما گناهان جهان را از بین می برید ،  
به ما رحم کن شما گناهان جهان را از  
بین می برید ، دعای ما را دریافت کنید  
شما در سمت راست پدر نشسته اید  
، به ما رحم کن برای شما تنها مقدس  
هستید ، تو تنها خداوند هستی ، شما  
به تنهایی بالاترین هستید ، عیسی  
مسیح ، با روح القدس ، در جلال خدا  
پدر. آمین

جمع کردن

**بگذارید دعا کنیم**

آمین

قضیه کلمه

خواندن اول

کلام خداوند.

خدارا شکر.

مزمور

خواندن دوم

کلام خداوند.

Lithuanian (Lietuvis)

Viešpatie pasigailėk.

**Kristau, pasigailėk.**

Kristau, pasigailėk.

**Viešpatie pasigailėk.**

Viešpatie pasigailėk.

Gloria

Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje  
ramybė geros valios žmonėms. Mes  
giriame tave, mes laiminame tave,  
mes tave dieviname, mes šloviname  
tave, dėkojame tau už didžiulę šlovę,  
Viešpatie Dieve, dangaus karaliau, O  
Dieve, visagalis Tėve. Viešpatie Jėzau  
Kristau, Viengimis Sūnų, Viešpatie  
Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau, tu  
naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk  
mūsų; tu naikini pasaulio nuodėmes,  
priimk mūsų maldą; tu sėdi Tėvo  
dešinėje, pasigailėk mūsų. Juk tu  
vienas esi Šventasis, tu vienas esi  
Viešpats, tu vienas esi Aukščiausiasis,  
Jėzus Kristus, su Šventąja Dvasia,  
Dievo Tėvo šlovėje. Amen.

Surinkti

**Pasimelskime.**

Amen.

Žodžio liturgija

Pirmasis svarstymas

Viešpaties žodis.

Ačiū Dievui.

Atsakomoji psalmė

Antrasis svarstymas

Viešpaties žodis.

Persian (فارسی)

خدارا شکر.  
انجیل

خداوند با شما باشد.

و با روح شما

خواندن از انجیل مقدس طبق گفته N.

جلال به تو ، ای پروردگار

انجیل خداوند.

ستایش به شما ، پروردگار عیسی

مسیح.

حرفه ایمان

من به یک خدا اعتقاد دارم ، پدر متعال ، سازنده بهشت و زمین ، از همه چیز قابل مشاهده و نامرئی. من به یک پروردگار عیسی مسیح اعتقاد دارم تنها پسر متولد خدا ، قبل از همه سنین از پدر متولد شده است. خدا از خدا ، نور از نور ، خدای واقعی از خدای واقعی ، با پدر متولد شده ، ساخته نشده است. از طریق او همه چیز ساخته شده است. برای ما مردان و برای نجات ما او از بهشت پایین آمد ، و توسط روح القدس تجسم مریم باکره ، و مرد شد. به خاطر ما او تحت پونتیوس پیلاتس صلیب شد ، او دچار مرگ شد و دفن شد ، و در روز سوم دوباره بلند شد مطابق با کتاب مقدس. او به بهشت صعود کرد و در سمت راست پدر نشست است. او دوباره در جلال خواهد آمد برای قضاوت در مورد زندگی و مردگان و پادشاهی او پایان نخواهد یافت. من به روح القدس ، خداوند ، اهدا کننده زندگی اعتقاد دارم ، که از پدر و پسر پیش می رود ، که با پدر و پسر مورد تحسین و تجلیل قرار می گیرند ، که از طریق پیامبران صحبت کرده است.

Lithuanian (Lietuvis)

Ačiū Dievui.  
Evangelija

Viešpats tebūna su tavimi.

Ir su savo dvasia.

Šventosios Evangelijos skaitinys pagal N.

Šlovė tau, Viešpatie

Viešpaties Evangelija.

Šlovė tau, Viešpatie Jėzau Kristau.

Tikėjimo profesija

Tikiu į vieną Dievą, visagalis Tėvas, dangaus ir žemės kūrėjas, visų matomų ir nematomų dalykų. Tikiu į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, Viengimis Dievo Sūnus, gimęs iš Tėvo prieš visus amžius. Dievas nuo Dievo, Šviesa iš šviesos, tikras Dievas iš tikro Dievo, gimęs, nesukurtas, su Tėvu susijęs; per jį viskas buvo sukurta. Dėl mūsų, vyrų, ir dėl mūsų išgelbėjimo jis nužengė iš dangaus, ir per Šventąją Dvasią įsikūnijo Mergelė Marija, ir tapo žmogumi. Dėl mūsų jis buvo nukryžiuotas valdant Poncijui Pilotui, jis mirė ir buvo palaidotas, ir vėl prisikėlė trečią dieną pagal Šventąjį Raštą. Jis pakilo į dangų ir sėdi Tėvo dešinėje. Jis vėl ateis šlovėje teisti gyvuosius ir mirusiuosius ir jo karalystei nebus galo. Tikiu į Šventąją Dvasią, Viešpatį, gyvybės davėją, kuris kyla iš Tėvo ir Sūnaus, kuris kartu su Tėvu ir Sūnumi yra garbinamas ir šlovinamas, kuris kalbėjo per pranašus. Tikiu viena, šventa, katalikų ir apaštalų bažnyčia.

## Persian (فارسی)

من به یک کلیسای مقدس ، مقدس ،  
کاتولیک و رسول اعتقاد دارم. من یک  
تعمید را برای بخشش گناهان اعتراف  
می کنم و من مشتاقانه منتظر  
رستاخیز مردگان هستم و زندگی  
جهان آینده. آمین  
پرحاش

نماز جهانی

ما به خداوند دعا می کنیم.

پروردگار ، دعای ما را بشنوید.

آیین ایکاریست

بی پروا

خدا را برای همیشه مبارک.

دعا کنید ، برادران (برادران و

خواهران) ، که فداکاری من و شما

ممکن است برای خدا قابل قبول باشد

، پدر متعال

باشد که خداوند فداکاری را در دستان

شما قبول کند برای ستایش و جلال

نام او ، برای خوب ما و خیر همه

کلیسای مقدس او.

آمین

دعای اچاریستی

خداوند با شما باشد.

و با روح شما

قلب خود را بلند کنید.

ما آنها را به سمت خداوند بلند می

کنیم.

بگذارید از خداوند خدای خود تشکر

کنیم.

درست و عادلانه است.

خداوند مقدس ، مقدس ، مقدس

خدای میزبان. بهشت و زمین پر از

شکوه تو است. حسنا در بالاترین.

خوشا به حال کسی که به نام خداوند

می آید. حسنا در بالاترین.

## Lithuanian (Lietuvis)

Išpažįstu vieną Krikštą nuodėmėms  
atleisti ir laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir  
būsimo pasaulio gyvenimą. Amen.

Homilija

Visuotinė malda

Meldžiame Viešpatį.

Viešpatie, išklausyk mūsų malda.

Eucharistijos liturgija

Pasiūla

Palaimintas Dievas per amžius.

Melskitės, broliai (broliai ir seserys),

kad mano ir tavo auka gali būti

priimtina Dievui, visagalis Tėvas.

Tegul Viešpats priima auką iš jūsų

rankų jo vardo šlovei ir šlovei, mūsų

labui ir visos jo šventosios Bažnyčios  
gėris.

Amen.

Eucharistinė malda

Viešpats tebūna su tavimi.

Ir su savo dvasia.

Pakelkite savo širdis.

Mes pakeliame juos į Viešpatį.

Dėkokime Viešpačiui, savo Dievui.

Tai teisinga ir teisinga.

Šventas, šventas, šventas Viešpats

kareivijų Dievas. Dangus ir žemė pilni

tavo šlovės. Osana aukštybėse.

Palaimintas, kuris ateina Viešpaties

vardu. Osana aukštybėse.

Persian (فارسی)

### رمز و راز ایمان.

ما مرگ شما را اعلام می کنیم ،  
پروردگار ، و رستاخیز خود را باور کنید  
تا دوباره بیاید. یا: وقتی این نان را  
می خوریم و این فنجان را می نوشیم  
، ما مرگ شما را اعلام می کنیم ،  
پروردگار ، تا دوباره بیاید. یا: ما را  
نجات دهید ، ناجی جهان ، با صلیب و  
معاد شما ما را آزاد کرده اید.  
آمین  
مناسک ادبی

به دستور ناجی و با آموزش الهی  
شکل گرفت ، ما جرات می کنیم  
بگوییم:

پدر ما ، که در بهشت هنر است ،  
نامت درخشان باد؛ پادشاهی تو بیا ،  
شما انجام خواهد شد روی زمین  
همانطور که در بهشت است. نان  
امروز ما را بدهید، و ما را به ما  
بخشید ، همانطور که ما کسانی را که  
علیه ما تجاوز می کنند می بخشیم. و  
ما را به وسوسه نکشید ، اما ما را از  
شر نجات می دهد.

ما را تحویل دهید ، پروردگار ، ما دعا  
می کنیم ، از هر شر ، با لطف در  
روزهای ما صلح را صلح می کنید ، که  
به کمک رحمت شما ، ما ممکن است  
همیشه از گناه عاری باشیم و از همه  
پریشانی ایمن ، همانطور که منتظر  
امید مبارک هستیم و آمدن ناجی ما ،  
عیسی مسیح.

برای پادشاهی ، قدرت و جلال مال  
شماست الان و برای همیشه.

پروردگار عیسی مسیح ، چه کسی به  
رسولان شما گفت: صلح من تو را  
ترک می کنم ، صلح من به شما می  
دهم ، به گناهان ما نگاه نکنید ، اما در  
مورد ایمان کلیسای خود ، و با لطف

Lithuanian (Lietuvis)

### Tikėjimo paslaptis.

Mes skelbiame tavo mirtį, Viešpatie, ir  
išpažinti savo Prisikėlimą kol vėl ateisi.  
Arba: Kai valgome šią duoną ir  
geriame šią taurę, Mes skelbiame Tavo  
mirtį, Viešpatie, kol vėl ateisi. Arba:  
Išgelbėk mus, pasaulio Gelbėtoju, už  
tavo kryžių ir prisikėlimą jūs mus  
išlaisvinote.

Amen.

Komunijos apeigos

Gelbėtojo įsakymu ir sukurti dieviškojo  
mokymo, drįstame pasakyti:

Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie  
šventas Tavo vardas; ateik tavo  
karalystė, bus tavo valia žemėje kaip  
danguje. Kasdienės mūsų duonos  
duok mums šiandien, ir atleisk mums  
mūsų kaltes, kaip mes atleidžiame  
tiems, kurie mus nusižengia; ir nevesk  
mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo  
blogio.

Išgelbėk mus, Viešpatie, nuo visų  
blogybių, suteik ramybę mūsų  
dienomis, kad tavo gailestingumo  
pagalba, mes visada galime būti laisvi  
nuo nuodėmės ir saugus nuo visų  
nelaimių, kaip laukiame palaimintosios  
vilties ir mūsų Gelbėtojo Jėzaus  
Kristaus atėjimas.

Už karalystę, galia ir šlovė yra tavo  
dabar ir visada.

Viešpatie Jėzau Kristau, kurie pasakė  
jūsų apaštalams: Ramybę aš tau  
palieku, savo ramybę duodu tau,  
nežiūrėk į mūsų nuodėmes, bet apie  
jūsų Bažnyčios tikėjimą, ir maloningai

Persian (فارسی)

صلح و وحدت خود را به مطابق با  
اراده شما که برای همیشه و همیشه  
زندگی می کنند و سلطنت می کنند.

آمین

صلح خداوند همیشه با شما باشد.

و با روح شما

بگذارید نشانه صلح را به یکدیگر

پیشنهاد دهیم.

بره خدا ، شما گناهان جهان را از بین  
می برید ، به ما رحم کن بره خدا ،  
شما گناهان جهان را از بین می برید ،  
به ما رحم کن بره خدا ، شما گناهان  
جهان را از بین می برید ، به ما صلح  
بدهید.

بین بره خدا ، بین کسی که گناهان  
جهان را از بین می برد. خوشا به حال  
کسانی که به شام بره خوانده می  
شوند.

پروردگار ، من شایسته نیستم که باید  
زیر سقف من وارد شوید ، اما فقط  
کلمه را بگویید و روح من بهبود می  
یابد.

بدن (خون) مسیح.

آمین

بگذارید دعا کنیم

آمین

نتیجه گیری مناسب

برکت

خداوند با شما باشد.

و با روح شما

خداوند متعال به شما برکت دهد ، پدر  
و پسر و روح القدس.

آمین

اخراج

Lithuanian (Lietuvis)

suteik jai ramybę ir vienybę pagal jūsų  
valią. Kurie gyvena ir viešpatauja per  
amžius.

Amen.

Viešpaties ramybė tebūna su jumis  
visada.

Ir su savo dvasia.

Siūlome vieni kitiems taikos ženklą.

Dievo avinėli, tu naikini pasaulio  
nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo  
avinėli, tu naikini pasaulio nuodėmes,  
pasigailėk mūsų. Dievo avinėli, tu  
naikini pasaulio nuodėmes, duok  
mums ramybę.

Štai Dievo Avinėlis, štai Tą, kuris  
naikina pasaulio nuodėmes. Palaiminti  
pašauktieji Avinėlio vakarienei.

Viešpatie, aš nevertas kad tu įeitum  
po mano stogu, bet tik tark žodį ir  
mano siela bus išgydyta.

Kristaus Kūnas (Kraujas).

Amen.

Pasimelskime.

Amen.

Baigiamosios apeigos

Palaiminimas

Viešpats tebūna su tavimi.

Ir su savo dvasia.

Telaimina tave visagalis Dievas, Tėvas,  
ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.

Amen.

Atleidimas iš darbo

### Persian (فارسی)

برو بیرون ، توده به پایان رسید. یا:  
برو و انجیل خداوند را اعلام کنید. یا:  
به آرامش بروید ، خداوند را تا زندگی  
خود تجلیل کنید. یا: به آرامش بروید.  
خدارا شکر.

### Lithuanian (Lietuvis)

Pirmyn, Mišios baigtos. Arba: Eik ir  
skelbk Viešpaties Evangeliją. Arba: Eik  
ramybėje, savo gyvybe šlovink  
Viešpatį. Arba: eik ramiai.  
Ačiū Dievui.

[massineverylanguage.com](http://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC